



## سوال

(324) ہاتھ میں گھڑی پہننا

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ہاتھ میں گھڑی پہننے کے بارے میں کیا حکم ہے بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس میں عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

الحمد للہ، والصلوٰۃ والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

ہمارے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں اور اس میں عورتوں کے ساتھ مشابہت بھی نہیں ہے کیونکہ عورتوں اور مردوں کی گھڑیاں مخصوص اور الگ الگ ہیں اور اگر مردوں اور عورتوں کی گھڑیاں ایک جیسی ہوں تو پھر بھی اس میں کوئی حرج نہیں جیسا کہ چاندی کی انگوٹھی مشترک ہے، اسے مرد اور عورتیں سب استعمال کر سکتے ہیں، اسی طرح گھڑی بھی سب استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ گھڑی کا استعمال بطور زینت و زیور نہیں ہوتا بلکہ اس کا استعمال تو اوقات معلوم کرنے کے لئے ہوتا ہے۔ واللہ ولی التوفیق۔

## مقالات و فتاویٰ ابن باز

صفحہ 412

محدث فتویٰ